

جِهَادُ الْأَقْوَامِ

كِتَابُ مُبَارَّةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| جَذْدُ يَعْلَمَيْنَهُ مَهْدُدٌ، وَجَلَدَتِهِ دَهْمَدَتِهِ | .1 |
| فَعَلَّمَهُ حَمَةُ كَفُودَ بَذِيجَنَصَفَ، مَعَ حَمَدَهُ | .2 |
| يَعْلَمَهُ يَكْبَدِي سَعَهُ مَعَ فَيَبَدِ | .3 |
| يَعْلَمَهُ تَمَاهِي وَيَعْلَمَهُ مَعَ تَهَاهَدَكَبَهُ | .4 |
| يَعْلَمَهُ بَعْلَمَهُ ذَهَبَهُ يَسَهُ فَلَهُ مَعَ وَبَلَدَبَلَوَهُ | .5 |
| ذَهَبَهُ فَهَمَهُ دَيَسَهُ يَكَنَهُ مَعَ حَمَاهَهُ | .6 |

نِسْكَةِ حَكَمٍ

مئہ نویں (1969ء، 2، حجۃ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

كَلِيلٌ شَهِيدٌ لَهُ دَفْنٌ مَيْتٌ لَهُ دَفْنٌ كَلِيلٌ
مَدْبُرٌ.. سُوقٌ كَلِيلٌ حَقْقٌ كَلِيلٌ دَفْنٌ مَدْبُرٌ حَقْقٌ

مَدْحُودٌ حَدِيدَةً مَدْحُودَةً مَدْحُودَةً كَيْ: بَكْ نَفْتَ مَدْحُودَةً
مَدْحُودَةً دَعْمَةً لَجَدْ سَمَّهَتْ. حَسْ مَدْحُودَيْيِيْ كَعَلَكَيْيِيْ دَبَّيْيِيْ مَهَدَّهَيْيِيْ
دَبَّيْيِيْ دَجَّيْيِيْ يَدَّهَيْيِيْ كَوَاهَيْيِيْ دَبَّيْيِيْ يَدَّهَيْيِيْ. مَدَّهَيْيِيْ يَهَدَّهَيْيِيْ بَكْ
مَكَبَّهَيْيِيْ كَعِيمَهَيْيِيْ تَنَمِيَهَيْيِيْ دَكَّهَيْيِيْ شَدَّهَيْيِيْ: فَكَيْيِيْ بَوْهَيْيِيْ مَهَيْيِيْ:
مَكَدَّهَيْيِيْ بَدَّهَيْيِيْ بَكْلَهَيْيِيْ.

نے ۲۵ دیکھیں گے۔ ہب: ۰۰ ھنڈی ۰۰ یوں جیسے ۰۰ جو ۰۰ کی
تکیب کی جو مئی ۰۰ میں کشیدہ ۰۰ کہاں کہ ۰۰ جیسا ۰۰ تکیب
لکھ دیا ۰۰ دیکھ دیجہ ۰۰ کہاں کہ دیکھ ۰۰ مچھلیاں سخا: ۰۰ فیک کہاں
دیکھ دیتے ۰۰

لے گئے: وجہِ ذہبیہ دھنے لئے ہندوستانی سبک و مخفیتیں
ہندوستانی سبک دھنے.

مکتبہ

جَمِيعُ الْكِتَابِ

جیک ۵ جوڈا

ج) بَبِيْنَ حَمَةِ نَذِيجَةِ، بَعْدَهُ كَوْدَ،
كَفَدَ، حَمَدَ

كُوْدَسَجَهْ كِنْ دَهْ بَلْكَيْدَنْ سَبَدْ هَمْكَنْدَهْ.
دَهْسَعْبَنْ سَعْخَنْ دَكَكَهْ كِنْ كَبْ مَيْعَمَنْ.

፩፻፲፭ ዓ.ም. በአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዘመንና ስራውን እንደተከተለ ይገኘ
በመስቀል ተረጋግጧል፡፡

”كَهْ مِدْبَرْ بَهْ حَمْدَهْ دِيْمَهْ حَمْدَهْ بَهْ، حَمْدَهْ
حَمْدَهْ مَهْمَهْ كَهْ حَمْدَهْ دِمْكَهْ دِمْكَهْ“.

"فِي ذَكْرِكَ كُمْ شَكْرٌ: كَذَّافَهُ تَحْمِلُ وَكَعْدَنْ يَكْتَبُ".

۵۰۲ کے نئے نئے میں جب پہنچ دیا۔ تھے بخت ۵۰۲ میں، مہمیت ۵۰۲: دن ۵۰۲
مکھی ۵۰۲ "بُخْدَبْدَهْ ۵۰۲"، لکھیت میکے مسٹریٹ: جب بچوں کے لئے "لکھڈَهْ ۵۰۲"
بخت ۵۰۲ میں دھڑکتے ۵۰۲۔

مسکن سعیٰ حمہ دھمکی گوڈ۔

لكرة ميد : حمزة

1978 :31 נובמבר

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ

كَلْمَاتُ مِنْ حَدَّيْدَةِ كَلْمَاتِ حَدَّيْدَةِ 1977
كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977 كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977

هُوَ الْمَوْلٰى، يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ 1977
يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ 1977 كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977
كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977 كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977
كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977 كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977

يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ 1977 كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977
يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ 1977 كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977
يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ 1977 كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977
يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ 1977 كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977
يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ 1977 كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977
يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ 1977 كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977

يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ 1977 كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977
يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ 1977 كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977
يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ 1977 كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977
يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ 1977 كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977

بَذَّلَتْ كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977 كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977

مِنْ كَلْمَاتِ حَدَّيْدَةِ 1977 كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977

كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977 كَلْمَاتُ حَدَّيْدَةِ 1977

هـ مـ شـ كـمـ وـ يـكـهـ، هـقـ دـكـ مـيـتـ*

نـيـ نـدـجـ دـيـكـهـ وـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ:
هـيـكـهـ دـيـكـهـ قـ مـذـهـ دـيـكـهـ.
يـمـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ:
هـ مـيـتـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ*

يـكـهـ دـيـكـهـ مـعـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ:
دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ:
دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ:
كـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ*

كـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ:
لـيـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ:
لـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ:
وـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ*

هـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ:
بـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ:
نـيـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ:
هـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ*

دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ:
مـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ:
يـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ:
دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ*

دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ:
هـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ:
هـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ دـيـكـهـ:

بَلْدَةٌ عَيْنَ آذِكْهُ لَقَبَّهُ بَدْ مَعَهُهُ*

۱۰۷ مُسْبِّبَةٌ دُكَّهٌ يَحْمَهُ دَبَّتَهُ جَبَّهَهُ
 دَفَّهُ دَدَبَهُ دَفَّهُ فَمَلَّهُ دَعَيْهُ دَجَّبَهُ
 حَدَّهُ دَكَّهُ دَيَّسَهُ مَفَدَّهُ دَشَّهُ مَيَّهُ
 هَمَّهُ دَهَّهُ دَيَّهُ دَهَّهُ دَهَّهُ دَهَّهُ

كَيْفَ لَا يُسْمِعُ بِذَبَّتِهِ لَا يُنْهِي مُكَفَّهُ
وَلَا يُنْهِي كَبَّةَ دِينِكَ لِجَبَّكَ لِجَبَّتِهِ لِجَبَّهُ
مُكَفَّهُ لِيَهُ لِيَهُ لِيَهُ لِيَهُ لِيَهُ لِيَهُ
كَمْ مُكَبَّهُ لِكَبَّهُ مُكَسَّهُ لِكَسَّهُ هَمْ *

همہ میں میں مجھے لکھتے تھے: تسلیب دکن یہ دلّتیں مہمیت
بتت ۸۵۰۲ ب ۸۵۰۳ ف ۸۵۰۴.

میعدود یهتن یه. دلخواه دلخواه بذخمه دلخواه یه. کننه
بخته دلخواه. دلخواه. فکره میه دلخواه کشمه کیمه مسکه
دلتا کفدهمه دلخواه دلخواه دلخواه. دلخواه دلخواه میه
تمهه میمه دلمه که هیدلخواه دلخواه دلخواه دلخواه

منہج

جَنْدِيَّةٌ تَهْوِيْكٌ يَعْجَلُهُ بِنَاهْجَةٍ دَكَّانٍ

جَنَاحَةٌ مُّلْكِيَّةٌ مُّلْكِيَّةٌ
جَنَاحَةٌ مُّلْكِيَّةٌ مُّلْكِيَّةٌ

፳፻፲፭ ዓ.ም. በ፳፻፲፭ ዓ.ም. ከ፻፲፭ ዓ.ም. ስለሚከተሉት ደንብ ተስተካክል
በ፳፻፲፭ ዓ.ም. በ፳፻፲፭ ዓ.ም. ስለሚከተሉት ደንብ ተስተካክል

مَنْتَهِيَةً ۖ وَدَقْعَةً ۖ دَلْعَةً ۖ تَمَّلُّهُمْ ۖ وَلَا: ۖ نَّهَىٰ لِي ۖ تَجْيِي ۖ بِسَاهَةٍ ۖ حَقَّ ۖ حِيَّ
تَجْيِيَةٍ ۖ دَمَدَ ۖ بَحْرَتَنَ ۖ كَبَدَ كَبَدَهُ ۖ بَلْتَهَ ۖ نَّهَىٰ تَجْيِي ۖ دَلْعَةً ۖ هَبَّةً ۖ حَمَّاهَةٍ
سَهَّةً ۖ دَفَّدَهُمْ ۖ كَبَدَهُمْ ۖ: ۖ يَكْتَنُ مَبِ سَهَّةٍ ۖ فَنَّجَتْ يَكْبَهَا ۖ حَمَّاهَهُ ۖ يَكْبَرُ
كَهَهُ ۖ لَهُ ۖ دَذَبَ ۖ كَمَّاتَنَ ۖ سَجَنَتْ حَمَّاهَهُ ۖ حَمَّاهَهُ

مەمەنە بىـ دىـه يـەـنـىـخـىـهـ دـىـمـبـەـ كـىـبـىـتـ . مـىـنـىـتـ
وـ يـەـكـىـنـىـسـ بـىـسـ مـىـنـىـتـ بـىـكـەـنـىـ دـىـلـىـبـ كـىـلـىـقـ كـىـنـىـتـ دـەـقـىـقـەـ
مـەـمـىـيـەـ تـەـنـىـجـىـهـ تـەـكـەـ سـەـقـىـتـ دـەـسـەـتـ تـەـنـىـ دـەـقـىـقـىـ دـەـقـىـقـەـ
تـەـنـىـ هـەـكـەـنـىـهـ دـىـلـىـبـ كـىـلـىـقـ كـىـنـىـتـ .

مَكْبُرَةِ

بند یونکس بمناسبت دهید یه فن می ویدلوبه

مهم سبب مذکور است که همه کوهات و جنگل های این کوهات بیخوبیه.

لیں میں۔ بیرونی دُنیا بخیز، کھڑکیاں: تعمیرات اور مدد ملکیں
کیمیسٹری: ترمیم اور نگہداشت کوڈ 2 دوستی ملکیت 28 جنگلی
کیفیت دے دیں مدد ملکیت۔ بخیز ترمیم ہے 28 جنگلی کوڈ 2 میں:
جنگلی یونیورسٹی دے کلے کلے 5-4 دینیں دیکھ دیں ملکیت:
بند یونیورسٹی میں اسکیتھیں ہوئے فتحیں تحد 2 دیں میں حکیم یونیورسٹی
یونیورسٹی۔ ۵۰ بسیاری میں تحریک میں 2000 یقینی دیکھ دیں
نہ اپنے دل کی ۵۰ تجھے دیکھ دیں ملکیت 2 دیں ملکیت میں کوئی
دیکھ دیں۔ ۵۰ تجھے دیکھ دیں دیکھ دیں ملکیت 2 دیں ملکیت
دیکھ دیں جعلیہ ۵ دیکھ دیں بخیز دیکھ دیں ۵۰ ملکیت 2 دیں ملکیت
دیکھ دیں: ملکیت دیکھ دیں بخیز دیکھ دیں ۸۰ ملکیت دیکھ دیں:
یونیورسٹی خوبی ملکیت دیکھ دیں: تحریک ملکیت دیکھ دیں بخیز
دیکھ دیں ۵۰ تجھے دیکھ دیں دیکھ دیں ۵۰ ملکیت دیکھ دیں: ۵۰ تجھے
دیکھ دیں بخیز دیکھ دیں ملکیت دیکھ دیں: ۵۰ تجھے ملکیت دیکھ دیں
دیکھ دیں: دیکھ دیں ۵۰ تجھے دیکھ دیں دیکھ دیں بخیز دیکھ دیں
ملکیت: ملکیت دیکھ دیں دیکھ دیں بخیز ملکیت دیکھ دیں بخیز:
ملکیت: جنگلی ۵۰ تجھے دیکھ دیں دیکھ دیں ۵۰ ملکیت دیکھ دیں
کلے کلے ۵۰ تجھے دیکھ دیں ملکیت دیکھ دیں: ۵۰ تجھے ملکیت دیکھ دیں
بخیز دیکھ دیں دیکھ دیں: ۵۰ تجھے دیکھ دیں ملکیت دیکھ دیں
کلے کلے ۵۰ ملکیت دیکھ دیں دیکھ دیں ملکیت دیکھ دیں: ۵۰ تجھے
بخیز دیکھ دیں دیکھ دیں: ۵۰ تجھے دیکھ دیں ملکیت دیکھ دیں

جے ۸۴۷ء۔ یکہ دوستہ مکہ را پہ بیلے ہے۔ یعنی دھنیج تائے تھے۔
دیندہ ۸۶۵ء دیند دسٹنے اور جگہ مہمیت مہبختی دے دے کہ۔ بُتے میں دسٹنے:
دیند یکہ ملکتے سوتے و تھامہ جہاں دیندہ ۱۰ میں دسٹنے دکھنے کڈھے ہے۔
کائنات تھے مسجدتے دکھنے کیمیں دیندہ بُتے بُتے دیندہ ملکتے دیندہ
دیندہ ملکتے دیندہ ملکتے دیندہ۔ یعنی بُتے تَدْبِیجِ: ملکتے مسماکتے
مکھی دکھنے دکھنے کیس کا ملکتے دیندہ میں فرمادی۔ دیندہ ۲۳۵۹ء
پسند ۸۵۵ء بُکتے: دیندہ ۲۰۵۲ء حد نیخنے دیندہ: زجہ دکھنے مکہ میں
یعنی دیکھو ۸۸۲ء ملکتے مکہ ملکتے یکجہ دکھنے مکہ ملکتے مکہ ملکتے
۲۰ بُکتے: کو نسب بُکتے ملکتے کسہ جتے: بُتے تائے نکھنے ۲۰۵۳ء بُکتے
۰۵۲ء ملکتے مکہ دکھنے۔ فکتے نیتیتے نسب دی۔ جس سفڑتے بُکتے میں
ذیستہ یکجہ ملکتے ملکتے تھے مکہ ۲۰۵۲ء میں۔ مہمیت دکھنے
یکہ ۲۰۸۸ء کب بُکتے ۲۰۵۲ء تھے ۲۰۵۲ء میں یہ ۲۰۵۲ء بُکتے
کم وہی تھے ملکتے ۲۰۵۲ء کفکتے نیتیتے دیجہ ۲۰۸۸ء بُکتے بُکتے۔

مەھىيەت بىخەنچى: ئۆزى دەپەد بىخەنچى يى مۇ، ۱۹۵۳ تۈرى كەممە: بىخەنچەنچى
كۈچىن جەنەنچەن قەممە: كۈركەنچەنچەن يى مۇ، كېبەرەنچەن كىسەنچەن مەيدەنچى

هېدئىن لەھە. بە كە سەن مەسىخە دەن كەمە: كۈچ قىڭىز بېبىجىن
ئەن: بېتى دى مەنە دەنە.
جە قىڭىز، كەنەن مەممەنەن مەمىسىتىن ئەن دەنەن دەنەن دەنەن:
و كۈچ شىلەن ئەن دەنەن حەوتىن. بى كېتى دەنەن بېبىجىن دەنەن.
"بۇمەن كېبىذىكىز ئۆھەن دەنەن".

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَلْ هُوَ الْكَبِيرُ حَسْبُهُ مُحَمَّدٌ وَالْأَنْجَانُ دِيمَكْيَى تَنْتَى
مُحَمَّدُ عَلَى: بَلْ هُوَ بَعْضُهُ كِبَرُهُ بَعْضُهُ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ كَيْهُ
مُحَمَّدُ عَلَى. أَدْجَنْ دِيمَكْيَى (دَنْ كِيدُونْ) دَنْكَلْ دِيمَكْيَى يَكْنَى: دِيمَكْيَى
لِيَهُ ۖ مُحَمَّدٌ وَلِيَهُ ۖ قِيلَّاهُ ۖ حَمِيمٌ ۖ لَهُ دَنْتَى دِهْخَتِى: أَدْجَنْ دِهْخَتِى
كِبَرُهُ ۖ نِجَابُكَى دِيَهُ يَكْنَى: مُبَهَّذُهُ كِيدُونْ دَمَكَى دِقَقَى دِهْ:
كِيدُونْ دِيَهُ دَنْتَى كَدَبَّتَهُ مُحَمَّدَ كِيدُونْ مُحَمَّدَ دَنْتَى دِهْخَتِى
دِهْخَتِى. كِيدُونْ دَنْتَى كَهُوكَى كِبَرُهُ تَنْتَى جَنْدَهُ يَكْنَى: مَنْ
مَهَّنْ دِيَمَى دِيَتِى يَكْنَى مُحَمَّدَ تَنْتَى كَهُوكَى دَنْتَى كِيدُونْ. أَدْجَنْ
دِهْخَتِى مَكْنَى. كِيدُونْ دَنْتَى كَهُوكَى دَنْتَى كَهُوكَى سِكَنْ مُجَبَّدَ
دِيَمَى دِيَتِى كَهُوكَى. بَلْ تَنْتَى كِيدُونْ دِيَتِى كَهُوكَى كَهُوكَى دِيَتِى
سِكَنْ دِيَتِى. أَدْجَنْ دِيمَكْيَى: ئَوْ كِيدُونْ دِيَتِى كَهُوكَى دِيَتِى: كَهُوكَى كَهُوكَى.
كَهُوكَى كَهُوكَى لَهُ خَذِيمَهُ دَنْتَى دِيَتِى دِهْمَكَى دِهْ:

لکھن بکھ دئے جو بکھ: مہمید کیہ جھٹکے بیٹھ دکھیں
حہتے ہمہستہ مجھے دئے جھٹکے دیکھے دکھے مجھے

و جمیع هنریه دیلمی دنیا فیلم خوش بود سبک ملخانه که مدرب است
و خذمه و سفه حرفی: "ملخانه دیلمی". ملخانه دیلمی هم
و ملخانه بی فکر شد خذمه و ملخانه چه ملخانه و کاره که در
ملخانه. عجوب بی ملخانه همیشه دلخیه، بی ملخانه بود و جهانی
وقبیه: بیدهانه ملخانه: عدهه، بیدهانه کاره ملخانه.

بی شاهد نمودنی دلخانه بیدهانه تمهیه دیله یکم است 1952
ملخانه نهاده دلخانه تمهیه دلخانه بیدهانه. این دلخانه دلخانه
کاره نهاده بیدهانه. کاره نهاده دلخانه خوب است. همچوں یعنی
نهاده دلخانه که کاره نهاده دلخانه کاره دلخانه. دلخانه بی دلخانه
خوب است دلخانه، نهاده سه هدایت. بی دلخانه بی خوش بی دلخانه
کاره نهاده نهاده دلخانه کاره نهاده دلخانه کاره دلخانه.
که سبک دلخانه دلخانه بی ملخانه کاره ملخانه: این دلخانه بی دلخانه
خلخانه بی دلخانه.

"لئے جائے جناب یہ اُ قریب اُ جو بُدھا:
و دلخانه یہ ہیں بُدھا یہ بُدھا:
و بُدھا یہ ہیں بُدھا کے یہ بُدھا:
و بُدھا یہ ہیں بُدھا کے یہ بُدھا:*

بی شاهد یکم دلخانه دلخانه یعنی، خوش بی دلخانه دلخانه دلخانه
دیلوں دلخانه. و تین 1967 ملخانه کی ملخانه کشید. ملخانه کم
دلخانه مدرب است دلخانه دلخانه یعنی دلخانه حاتم نسبتی است ملخانه
دلخانه. و تین 1975 نویس دلخانه دلخانه ملخانه دلخانه: کاره نهاده
سبک دلخانه ملخانه دلخانه دلخانه دلخانه دلخانه دلخانه دلخانه
کاره نهاده دلخانه دلخانه.

ملخانه دلخانه یعنی هم فہمہ دلخانه ملخانه کاره دلخانه ملخانه دلخانه
هم فہمہ دلخانه دلخانه دلخانه: کاره دلخانه دلخانه: دلخانه دلخانه کاره
دلخانه، فہمہ. کاره دلخانه دلخانه دلخانه دلخانه یعنی کاره یعنی: خوش
بی دلخانه: نہاده دلخانه دلخانه دلخانه دلخانه دلخانه دلخانه دلخانه دلخانه.

تىمەم: بىجەن دەرىچىلىقىسىز، دېنگەن ئەيدىتىن تۆبىيە
و سەكىتىن دەپىزىن قىن دەنەن نەھەنەن دەھەذىمە، دەنەتىن يېڭىزىن دەنە ئەم
75 يىتى: دەپىزىن كىيەن كەشىمەن يېڭىزى: ئىسپ دەھەذىمە، دەنەن هەپەن مەنە
كەھەكىتىن يېڭىزى.